

## ARABIC VERB CONJUGATOR

رَزَقَ  
يَرْزُقُ

Provide

VERBAL NOUN (MASDAR)

رِزْقًا

رزق دینا

Root: رزق

PAST

رَزَقَ

اس نے رزق دیا

PRESENT

يَرْزُقُ

وہ رزق دیتا ہے / رزق دے گا

MASDAR

رِزْقًا

رزق دینا

ISM FA'IL

رَازِقٌ

رزق دینے والا

ISM MAFOOL

مَرْزُوقٌ

جسے رزق دیا گیا

## PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	الضمير	ترجمہ
هُوَ	رَزَقَ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے رزق دیا
هُمَا	رَزَقَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے رزق دیا
هُمْ	رَزَقُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے رزق دیا
هِيَ	رَزَقَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے رزق دیا
هُمَا	رَزَقَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے رزق دیا
هُنَّ	رَزَقْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے رزق دیا
أَنْتَ	رَزَقْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے رزق دیا
أَنْتِمَا	رَزَقْتُمَا	تم (دو مرد/عورتیں)	تم دونوں نے رزق دیا
أَنْتُمْ	رَزَقْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے رزق دیا
أَنْتِ	رَزَقْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے رزق دیا
أَنْتُمَا	رَزَقْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے رزق دیا
أَنْتِنَّ	رَزَقْتِنَّ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے رزق دیا
أَنَا	رَزَقْتُ	میں	میں نے رزق دیا
نَحْنُ	رَزَقْنَا	ہم	ہم نے رزق دیا

## PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	الضمير	ترجمہ
هُوَ	يَرْزُقُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد رزق دیتا ہے / رزق دے گا
هُمَا	يَرْزُقَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هُمْ	يَرْزُقُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هِيَ	رَزَقَتْ	وہ (ایک عورت)	وہ ایک عورت رزق دیتی ہے / رزق دے گی
هُمَا	رَزَقَانِ	وہ (دو عورتیں)	وہ دو عورتیں رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
هُنَّ	يُرْزِقْنَ	وہ (سب عورتیں)	وہ سب عورتیں رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
أَنْتِ	تُرْزِقِ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد رزق دیتے ہو / رزق دو گے
أَنْتَا	تُرْزِقَانِ	تم (دو مرد / عورتیں)	تم دونوں رزق دیتے ہو / رزق دو گے
أَنْتُمْ	تُرْزِقُونَ	تم (سب مرد)	تم سب مرد رزق دیتے ہو / رزق دو گے
أَنْتِ	تُرْزِقِينَ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت رزق دیتی ہو / رزق دو گی
أَنْتَا	تُرْزِقَانِ	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتیں رزق دیتی ہو / رزق دو گی
أَنْتُنَّ	تُرْزِقْنَ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتیں رزق دیتی ہو / رزق دو گی
أَنَا	أَرْزُقُ	میں	میں رزق دیتا / دیتی ہوں / رزق دوں گا / گی
نَحْنُ	نُرْزِقُ	ہم	ہم رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے

## IMPERATIVE

## الأمر والنهي

POSITIVE		الأمر	NEGATIVE		النهي
الضمير	الفعل	ترجمہ	الضمير	الفعل	ترجمہ
أَنْتِ	أَرْزُقِي	تم رزق دو (مذکر واحد)	أَنْتِ	لَا تَرْزُقِي	تم مت رزق دو (مذکر واحد)
أَنْتَا	أَرْزُقَا	تم دونوں رزق دو	أَنْتَا	لَا تَرْزُقَا	تم دونوں مت رزق دو
أَنْتُمْ	أَرْزُقُوا	تم سب رزق دو (مذکر جمع)	أَنْتُمْ	لَا تَرْزُقُوا	تم سب مت رزق دو (مذکر جمع)
أَنْتِ	أَرْزُقِي	تم رزق دو (مؤنث واحد)	أَنْتِ	لَا تَرْزُقِي	تم مت رزق دو (مؤنث واحد)
أَنْتَا	أَرْزُقَا	تم دونوں رزق دو (مؤنث)	أَنْتَا	لَا تَرْزُقَا	تم دونوں مت رزق دو (مؤنث)
أَنْتُنَّ	أَرْزُقْنَ	تم سب رزق دو (مؤنث جمع)	أَنْتُنَّ	لَا تَرْزُقْنَ	تم سب مت رزق دو (مؤنث جمع)

## الجدول الإسنادي — الماضي

## RELATIONAL MAPPING — PAST

هو	رَزَقَ	وه (ایک مرد)
نِي	رَزَقَنِي	اس نے مجھے رزق دیا
نَا	رَزَقَنَا	اس نے ہمیں رزق دیا
كَ	رَزَقَكَ	اس نے تمہیں (ایک مرد) رزق دیا
كُمَا	رَزَقَكُمَا	اس نے تم دونوں کو رزق دیا
كُم	رَزَقَكُم	اس نے تم سب (مردوں) کو رزق دیا
كَ	رَزَقَكَ	اس نے تمہیں (ایک عورت) رزق دیا
كُنَّ	رَزَقَنَّ	اس نے تم سب (عورتوں) کو رزق دیا
هُ	رَزَقَهُ	اس نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
هُمَا	رَزَقَهُمَا	اس نے ان دونوں کو رزق دیا
هُمْ	رَزَقَهُمْ	اس نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
هَا	رَزَقَهَا	اس نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
هُمَا	رَزَقَهُمَا	اس نے ان دونوں عورتوں کو رزق دیا
هِنَّ	رَزَقَهُنَّ	اس نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

هيَا (مذكر)	رَزَقَ	وه (دو مرد)
نِي	رَزَقَانِي	ان دو مردوں نے مجھے رزق دیا
نَا	رَزَقَانَا	ان دو مردوں نے ہمیں رزق دیا
كَ	رَزَقَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) رزق دیا
كُمَا	رَزَقَاكُمَا	ان دو مردوں نے تم دونوں کو رزق دیا
كُم	رَزَقَاكُم	ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو رزق دیا
كَ	رَزَقَاكَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) رزق دیا
كُنَّ	رَزَقَاكُنَّ	ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو رزق دیا
هُ	رَزَقَاهُ	ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
هُمَا	رَزَقَاهُمَا	ان دو مردوں نے ان دونوں کو رزق دیا
هُمْ	رَزَقَاهُمْ	ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
هَا	رَزَقَاهَا	ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
هِنَّ	رَزَقَاهُنَّ	ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

م	وہ (سب مرد)	
نِي	رَزَقُونِي	ان سب مردوں نے مجھے رزق دیا
نَا	رَزَقُونَا	ان سب مردوں نے ہمیں رزق دیا
كَ	رَزَقُوكَ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) رزق دیا
كُمَا	رَزَقُوكُمَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو رزق دیا
كُم	رَزَقُوكُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو رزق دیا
كَ	رَزَقُوكِ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) رزق دیا
كُنَّ	رَزَقُوكنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو رزق دیا
هُ	رَزَقُوهُ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
هُمَا	رَزَقُوهُمَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو رزق دیا
هُم	رَزَقُوهُم	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
هَا	رَزَقُوهَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
هِنَّ	رَزَقُوهُنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

ہِ	وہ (ایک عورت)	
نِي	رَزَقْتَنِي	اس ایک عورت نے مجھے رزق دیا
نَا	رَزَقْتَنَا	اس ایک عورت نے ہمیں رزق دیا
كَ	رَزَقْتِكَ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) رزق دیا
كُمَا	رَزَقْتِكُمَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو رزق دیا
كُم	رَزَقْتِكُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو رزق دیا
كَ	رَزَقْتِكِ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) رزق دیا
كُنَّ	رَزَقْتِكُنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو رزق دیا
هُ	رَزَقْتَهُ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
هُمَا	رَزَقْتَهُمَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو رزق دیا
هُم	رَزَقْتَهُم	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
هَا	رَزَقْتَهَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
هِنَّ	رَزَقْتَهُنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	رَزَقَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے رزق دیا
نَا	رَزَقَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں رزق دیا
ک	رَزَقَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) رزق دیا
کَا	رَزَقَاکُمَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو رزق دیا
کُم	رَزَقَاکُمْ	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو رزق دیا
ک	رَزَقَاکَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) رزق دیا
کَنَّ	رَزَقَاکُنَّ	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو رزق دیا
ہ	رَزَقَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
ہمَا	رَزَقَاهُمَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو رزق دیا
ہم	رَزَقَاهُمْ	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
ہَا	رَزَقَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
ہنَّ	رَزَقَاهُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	رَزَقَنِی	ان سب عورتوں نے مجھے رزق دیا
نَا	رَزَقَنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں رزق دیا
ک	رَزَقَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) رزق دیا
کَا	رَزَقَاکُمَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو رزق دیا
کُم	رَزَقَاکُمْ	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو رزق دیا
ک	رَزَقَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) رزق دیا
کَنَّ	رَزَقَاکُنَّ	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو رزق دیا
ہ	رَزَقَنَّهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
ہمَا	رَزَقَنَّهُمَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو رزق دیا
ہم	رَزَقَنَّهُمْ	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
ہَا	رَزَقَنَهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
ہنَّ	رَزَقَنَّهُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

تم (ایک مرد)	أَنْتَ	تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم (ایک مرد) نے مجھے رزق دیا	رَزَقْتَنِي	تم دونوں نے مجھے رزق دیا	رَزَقْتُمَانِي
تم (ایک مرد) نے ہمیں رزق دیا	رَزَقْتَنَا	تم دونوں نے ہمیں رزق دیا	رَزَقْتُمَانَا
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) رزق دیا	رَزَقْتَهُ	تم دونوں نے اسے (ایک مرد) رزق دیا	رَزَقْتُمَاهُ
تم (ایک مرد) نے ان دونوں کو رزق دیا	رَزَقْتَهُمَا	تم دونوں نے ان دونوں کو رزق دیا	رَزَقْتُهُمَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا	رَزَقْتَهُمْ	تم دونوں نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا	رَزَقْتُهُمْ
تم (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) رزق دیا	رَزَقْتَهَا	تم دونوں نے اسے (ایک عورت) رزق دیا	رَزَقْتُمَاهَا
تم (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا	رَزَقْتَهُنَّ	تم دونوں نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا	رَزَقْتُمَاهُنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ	تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم سب (مردوں) نے مجھے رزق دیا	رَزَقْتُمُونِي	تم (ایک عورت) نے مجھے رزق دیا	رَزَقْتِنِي
تم سب (مردوں) نے ہمیں رزق دیا	رَزَقْتُمُونَا	تم (ایک عورت) نے ہمیں رزق دیا	رَزَقْتِنَا
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) رزق دیا	رَزَقْتُمُوهُ	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) رزق دیا	رَزَقْتِيهِ
تم سب (مردوں) نے ان دونوں کو رزق دیا	رَزَقْتُمُوهُمَا	تم (ایک عورت) نے ان دونوں کو رزق دیا	رَزَقْتِيَهُمَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا	رَزَقْتُمُوهُمْ	تم (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا	رَزَقْتِيَهُمْ
تم سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) رزق دیا	رَزَقْتُمُوَهَا	تم (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) رزق دیا	رَزَقْتِيَهَا
تم سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا	رَزَقْتُمُوَهُنَّ	تم (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا	رَزَقْتِيَهُنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)
نِي	تم سب (عورتوں) نے مجھے رزق دیا
نَا	تم سب (عورتوں) نے ہمیں رزق دیا
هُ	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
هُمَا	تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو رزق دیا
هُم	تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
هَا	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
هُنَّ	تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

اَنَا	میں
كَ	میں نے تمہیں (ایک مرد) رزق دیا
كُمَا	میں نے تم دونوں کو رزق دیا
كُمُ	میں نے تم سب (مردوں) کو رزق دیا
كَ	میں نے تمہیں (ایک عورت) رزق دیا
كُنَّ	میں نے تم سب (عورتوں) کو رزق دیا
هُ	میں نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
هُمَا	میں نے ان دونوں کو رزق دیا
هُم	میں نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
هَا	میں نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
هُنَّ	میں نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

نَحْنُ	ہم
كَ	ہم نے تمہیں (ایک مرد) رزق دیا
كُمَا	ہم نے تم دونوں کو رزق دیا
كُمُ	ہم نے تم سب (مردوں) کو رزق دیا
كَ	ہم نے تمہیں (ایک عورت) رزق دیا
كُنَّ	ہم نے تم سب (عورتوں) کو رزق دیا
هُ	ہم نے اسے (ایک مرد) رزق دیا
هُمَا	ہم نے ان دونوں کو رزق دیا
هُم	ہم نے ان سب (مردوں) کو رزق دیا
هَا	ہم نے اسے (ایک عورت) رزق دیا
هُنَّ	ہم نے ان سب (عورتوں) کو رزق دیا

## الجدول الإسنادي — المضارع

## RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نِي	يُرْزُقُنِي	وہ مجھے رزق دیتا ہے / رزق دے گا
نَا	يُرْزُقُنَا	وہ ہمیں رزق دیتا ہے / رزق دے گا
كَ	يُرْزُقُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) رزق دیتا ہے / رزق دے گا
كُمَا	يُرْزُقُكُمَا	وہ تم دونوں کو رزق دیتا ہے / رزق دے گا
كُم	يُرْزُقُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو رزق دیتا ہے / رزق دے گا
كَ	يُرْزُقُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) رزق دیتا ہے / رزق دے گا
كُنَّ	يُرْزُقُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو رزق دیتا ہے / رزق دے گا
ه	يُرْزُقُهُ	وہ اسے (ایک مرد) رزق دیتا ہے / رزق دے گا
هُمَا	يُرْزُقُهُمَا	وہ ان دونوں کو رزق دیتا ہے / رزق دے گا
هُمْ	يُرْزُقُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو رزق دیتا ہے / رزق دے گا
هَا	يُرْزُقُهَا	وہ اسے (ایک عورت) رزق دیتا ہے / رزق دے گا
هُمَا	يُرْزُقُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو رزق دیتا ہے / رزق دے گا
هِنَّ	يُرْزُقُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو رزق دیتا ہے / رزق دے گا

هيأ (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	يُرْزُقَانِي	وہ دو مرد مجھے رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
نَا	يُرْزُقَانَا	وہ دو مرد ہمیں رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كَ	يُرْزُقَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كُمَا	يُرْزُقَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كُم	يُرْزُقَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كَ	يُرْزُقَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كُنَّ	يُرْزُقَاكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
ه	يُرْزُقَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هُمَا	يُرْزُقَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هُمْ	يُرْزُقَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هَا	يُرْزُقَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هِنَّ	يُرْزُقَاهِنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے

هم		وہ (سب مرد)
نِي	يُرْزُقُونِي	وہ سب مرد مجھے رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
نَا	يُرْزُقُونَا	وہ سب مرد ہمیں رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كَ	يُرْزُقُوكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كُمَا	يُرْزُقُوكُمَا	وہ سب مرد تم دونوں کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كُم	يُرْزُقُوكُم	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كَ	يُرْزُقُوكِ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
كُنَّ	يُرْزُقُوكُنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
ه	يُرْزُقُوهُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هُمَا	يُرْزُقُوهُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هُم	يُرْزُقُوهُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هَا	يُرْزُقُوهَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے
هِنَّ	يُرْزُقُوهُنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے

هي		وہ (ایک عورت)
نِي	تُرْزُقُنِي	وہ ایک عورت مجھے رزق دیتی ہے / رزق دے گی
نَا	تُرْزُقُنَا	وہ ایک عورت ہمیں رزق دیتی ہے / رزق دے گی
كَ	تُرْزُقُوكِ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) رزق دیتی ہے / رزق دے گی
كُمَا	تُرْزُقُوكُمَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو رزق دیتی ہے / رزق دے گی
كُم	تُرْزُقُوكُم	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو رزق دیتی ہے / رزق دے گی
كَ	تُرْزُقُوكِ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) رزق دیتی ہے / رزق دے گی
كُنَّ	تُرْزُقُوكُنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو رزق دیتی ہے / رزق دے گی
ه	تُرْزُقُوهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) رزق دیتی ہے / رزق دے گی
هُمَا	تُرْزُقُوهُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو رزق دیتی ہے / رزق دے گی
هُم	تُرْزُقُوهُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو رزق دیتی ہے / رزق دے گی
هَا	تُرْزُقُوهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) رزق دیتی ہے / رزق دے گی
هِنَّ	تُرْزُقُوهِنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو رزق دیتی ہے / رزق دے گی

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تَرْزُقَانِی	وہ دو عورتیں مجھے رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
نَا	تَرْزُقَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ک	تَرْزُقَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
کَا	تَرْزُقَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
کُم	تَرْزُقَاکُم	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ک	تَرْزُقَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
کَنَّ	تَرْزُقَاکَنَّ	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہ	تَرْزُقَاهُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہَمَا	تَرْزُقَاهُمَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہُم	تَرْزُقَاهُم	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہَا	تَرْزُقَاهَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہَنَّ	تَرْزُقَاهَنَّ	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یَرْزُقَانِی	وہ سب عورتیں مجھے رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
نَا	یَرْزُقَانَا	وہ سب عورتیں ہمیں رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ک	یَرْزُقَاکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
کَا	یَرْزُقَاکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
کُم	یَرْزُقَاکُم	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ک	یَرْزُقَاکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
کَنَّ	یَرْزُقَاکَنَّ	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہ	یَرْزُقَاهُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہَمَا	یَرْزُقَاهُمَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہُم	یَرْزُقَاهُم	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہَا	یَرْزُقَاهَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی
ہَنَّ	یَرْزُقَاهَنَّ	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو رزق دیتی ہیں / رزق دیں گی

تم (ایک مرد)	أَنْتَ	تم دونوں (مرد/عورت)	أَنْتُمَا
تم (ایک مرد) مجھے رزق دیتے ہو / رزق دو گے	نِي	تم دونوں مجھے رزق دیتے ہو / رزق دو گے	نِي
تم (ایک مرد) ہمیں رزق دیتے ہو / رزق دو گے	نَا	تم دونوں ہمیں رزق دیتے ہو / رزق دو گے	نَا
تم (ایک مرد) اسے (ایک مرد) رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُ	تم دونوں اسے (ایک مرد) رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُ
تم (ایک مرد) ان دونوں کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُمَا	تم دونوں ان دونوں کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُمَا
تم (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُمْ	تم دونوں ان سب (مردوں) کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُمْ
تم (ایک مرد) اسے (ایک عورت) رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هَا	تم دونوں اسے (ایک عورت) رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هَا
تم (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُنَّ	تم دونوں ان سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُنَّ

تم سب (مرد)	أَنْتُمْ	تم (ایک عورت)	أَنْتِ
تم سب (مرد) مجھے رزق دیتے ہو / رزق دو گے	نِي	تم (ایک عورت) مجھے رزق دیتی ہو / رزق دو گی	نِي
تم سب (مرد) ہمیں رزق دیتے ہو / رزق دو گے	نَا	تم (ایک عورت) ہمیں رزق دیتی ہو / رزق دو گی	نَا
تم سب (مرد) اسے (ایک مرد) رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُ	تم (ایک عورت) اسے (ایک مرد) رزق دیتی ہو / رزق دو گی	هُ
تم سب (مرد) ان دونوں کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُمَا	تم (ایک عورت) ان دونوں کو رزق دیتی ہو / رزق دو گی	هُمَا
تم سب (مرد) ان سب (مردوں) کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُمْ	تم (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو رزق دیتی ہو / رزق دو گی	هُمْ
تم سب (مرد) اسے (ایک عورت) رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هَا	تم (ایک عورت) اسے (ایک عورت) رزق دیتی ہو / رزق دو گی	هَا
تم سب (مرد) ان سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہو / رزق دو گے	هُنَّ	تم (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو رزق دیتی ہو / رزق دو گی	هُنَّ

أنتن	تم سب (عورتیں)	میں	أنا
نِي	تم سب (عورتیں) مجھے رزق دیتی ہو / رزق دو گی	میں تمہیں (ایک مرد) رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	كَ
نَا	تم سب (عورتیں) ہمیں رزق دیتی ہو / رزق دوگی	میں تم دونوں کو رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	كُنَا
هُ	تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) رزق دیتی ہو / رزق دوگی	میں تم سب (مردوں) کو رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	كُمُ
هُمَا	تم سب (عورتیں) ان دونوں کو رزق دیتی ہو / رزق دوگی	میں تمہیں (ایک عورت) رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	كِي
هُم	تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو رزق دیتی ہو / رزق دوگی	میں تم سب (عورتوں) کو رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	كُنَّ
هَا	تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) رزق دیتی ہو / رزق دوگی	میں اسے (ایک مرد) رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	هُ
هُنَّ	تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو رزق دیتی ہو / رزق دوگی	میں ان دونوں کو رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	هُمَا
		میں ان سب (مردوں) کو رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	هُمُ
		میں اسے (ایک عورت) رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	هَا
		میں ان سب (عورتوں) کو رزق دیتا/دیتی ہوں / رزق دوں گا/گی	هُنَّ

ہم	نَحْنُ
ہم تمہیں (ایک مرد) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَكَ
ہم تم دونوں کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَكُمَا
ہم تم سب (مردوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَكُمُوهُمْ
ہم تمہیں (ایک عورت) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَكَ
ہم تم سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَكُنَّ
ہم اسے (ایک مرد) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَهُ
ہم ان دونوں کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَهُمَا
ہم ان سب (مردوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَهُمُوهُمْ
ہم اسے (ایک عورت) رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَهَا
ہم ان سب (عورتوں) کو رزق دیتے ہیں / رزق دیں گے	رَزَقَهُنَّ

## USAGE EXAMPLES — PAST

## مثالیں — ماضی

I

أَنَا رَزَقْتُ أُسْرَتِي بِفَضْلِ اللَّهِ وَعَمَلِي الدَّوَّوبِ.

میں نے اللہ کے فضل اور اپنی مسلسل محنت سے اپنے گھروالوں کو رزق دیا۔

I provided for my family by Allah's grace and my diligent work.

We

نَحْنُ رَزَقْنَا الْفُقَرَاءَ مِنْ أَمْوَالِنَا صَدَقَةً وَكَرَمًا.

ہم نے صدقے اور سخاوت کے طور پر اپنے مال سے غریبوں کو رزق دیا۔

We provided for the poor from our wealth as charity and generosity.

You (m)

أَنْتَ رَزَقْتَ يَتِيمًا فِي حَيْكَ فَبَارَكَ اللَّهُ فِي رِزْقِكَ.

تم نے اپنے محلے کے یتیم کو رزق دیا تو اللہ نے تمہارے رزق میں برکت دی۔

You provided for an orphan in your neighborhood and Allah blessed your provision.

You (f)

أَنْتِ رَزَقْتِ ضَيْوْفَكَ طَعَامًا طَيِّبًا وَكَرِيمًا.

تم نے اپنے مہمانوں کو عمدہ اور فراخ دلانہ کھانا کھلایا۔

You (f) provided your guests with wholesome and generous food.

He

هُوَ رَزَقَ اللَّهُ عِبَادَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ.

اللہ نے اپنے بندوں کو وہاں سے رزق دیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔

Allah provided His servants from where they could not expect.

She

هِيَ رَزَقَتِ الْأُمَّ أَوْلَادَهَا بِسَعْيِهَا وَتَعَبِهَا.

ماں نے اپنی محنت اور تھکاوٹ سے اپنے بچوں کو رزق دیا۔

The mother provided for her children through her effort and toil.

They two

هُمَا رَزَقَا أَبَوَيْهِمَا فِي شَيْخُوخَتَيْهِمَا بِرًّا وَإِحْسَانًا.  
ان دونوں نے نیکی اور احسان سے اپنے والدین کو بڑھاپے میں رزق دیا۔

They two provided for their parents in old age with filial piety and kindness.

They (m)

هُمْ رَزَقُوا الْمَسَاكِينَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ.  
انہوں نے زکوٰۃ اور صدقات سے مسکینوں کو رزق دیا۔

They provided for the needy through zakat and charitable giving.

You all (m)

أَنْتُمْ رَزَقْتُمْ الْعَمَالَ أَجُورَهُمْ كَامِلَةً وَفِي وَقْتِهَا.  
تم سب نے مزدوروں کو ان کی پوری اجرت وقت پر ادا کی۔

You all provided the workers their full wages on time.

They (f)

هُنَّ رَزَقْنَ أَبْنَاءَهُنَّ بِمَا أَعْطَاهُنَّ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ.  
انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت سے اپنے بچوں کو رزق دیا۔

They (f) provided for their children with the goodness Allah gave them.

## USAGE EXAMPLES — PRESENT

## مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَرْزُقُ أُسْرَتِي مِنْ رِزْقٍ حَلَالٍ وَطَيِّبٍ.  
میں اپنے گھروالوں کو حلال اور پاکیزہ رزق دیتا ہوں۔

I provide for my family from lawful and wholesome provision.

We

نَحْنُ نَرْزُقُ الْفُقَرَاءَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ الَّذِي أَعْطَانَا.  
ہم اللہ کے اس فضل سے غریبوں کو رزق دیتے ہیں جو اس نے ہمیں عطا کیا۔

We provide for the poor from Allah's favor that He bestowed on us.

You (m)

أَنْتَ تَرْزُقُ أَهْلَكَ وَتَحْرِصُ عَلَى طَيِّبِ الْكَسْبِ.  
تم اپنے گھروالوں کو رزق دیتے ہو اور پاکیزہ کمائی کا خیال رکھتے ہو۔

You provide for your family and are diligent about earning clean income.

You (f)

أَنْتِ تَرْزُقِينَ أَبْنَاءَكَ الْحُبَّ وَالرِّعَايَةَ وَالطَّعَامَ.  
تم اپنے بچوں کو محبت، دیکھ بھال اور کھانا مہیا کرتی ہو۔

You (f) provide your children with love, care, and food.

He

هُوَ يَرْزُقُ اللَّهُ كُلَّ مَخْلُوقٍ بِلَا حِسَابٍ.  
اللہ ہر مخلوق کو بے حساب رزق دیتا ہے۔

Allah provides every creature without limit or count.

She

هِيَ تَرْزُقُ أَوْلَادَهَا بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُونَهُ بِحُبٍّ.  
وہ محبت سے اپنے بچوں کو ہر ضرورت کی چیز مہیا کرتی ہے۔

She provides her children with everything they need with love.

They two

هُمَا يَرْزُقَانِ أَبَوَيْهِمَا وَيَقُومَانِ بِحَاجَتَيْهِمَا.  
وہ دونوں اپنے والدین کو رزق دیتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔

They two provide for their parents and fulfill their needs.

They (m)

هُمْ يَرْزُقُونَ الْيَتَامَى مِنَ الصَّدَقَاتِ بِرَحْمَةٍ وَشَفَقَةٍ.  
وہ رحمت اور شفقت سے صدقات کے ذریعے یتیموں کو رزق دیتے ہیں۔

They provide for the orphans from charity with mercy and compassion.

You all (m)

أَنْتُمْ تَرْزُقُونَ الْعَمَالَ وَتُؤَدُّونَ إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ.  
تم سب مزدوروں کو رزق دیتے ہو اور ان کے حقوق ادا کرتے ہو۔

You all provide for the workers and give them their due rights.

They (f)

هُنَّ يَرْزُقْنَ أُسْرَهُنَّ بِالصَّبْرِ وَالْعَمَلِ الدَّؤُوبِ.  
وہ صبر اور مسلسل محنت سے اپنے گھروالوں کو رزق دیتی ہیں۔

They (f) provide for their families with patience and continuous effort.

## VOCABULARY

## المفردات

الرِّزْقُ  
رزق

sustenance / provision

الرَّازِقُ  
رازق (الذي كانام)

the Provider (Allah's name)

الْحَلَالُ  
حلال

lawful / permissible

الطَّيِّبُ  
طايبه

wholesome / pure

الصَّدَقَةُ  
صدقة

voluntary charity

الزَّكَاةُ  
زكاة

obligatory alms

الْفَقِيرُ  
فقير

poor person

المُسْكِينُ  
مسكين

needy person

الْيَتِيمُ  
يتيم

orphan

الْأُسْرَةُ  
خاندان

family

المَخْلُوقُ  
مخلوق

creature

الْأَجْرَةُ  
اجرت

wages / salary

الْبَرَكَاتُ  
بركت

blessing / abundance

الْكَسْبُ  
كسب

earning / income

الْكَفَالَةُ  
كفالت

support / maintenance